

# Job

## Chapter 5

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	קָרָא	נָא	הִישׁ	עֲנֶה	וְאָל-	מִי	מִקְדָּשִׁים	תִּפְנֶה:
	بلا	ذرا	کیا ہے	جواب دینے والا تجھے	اور کس	کس	مقدسوں میں سے	ٹو متوجہ ہوگا
	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H4994</a>	<a href="#">H3426</a>		<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H6918</a>	<a href="#">H6437</a>

ہے؟ سکتا کر رجوع طرف کی کس ٹو سے میں مُقَدِّسین نہیں! کوئی گا؟ دے جواب کون لیکن دے، آواز بے شک

2	כִּי-	לְאֹיִל	יְהִרְגֶנּוּ	כָּעֵשׂ	וּפְתָה	תָּמִית	קִנְיָה:
	کیونکہ	بے وقوف کو	مار ڈالتا ہے	غصہ	اور سادہ لوح کو	مار ڈالتی ہے	حسد
		<a href="#">H0191</a>	<a href="#">H2026</a>		<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H7068</a>	

ہے۔ دیتی اُتار گھاٹ کے موت اُسے سرگرمی کی لوح سادہ ڈالتی، مار اُسے رنجیدگی کی احمق کیونکہ

3	אֲנִי-	רְאִיתִי	אֲנִיל	מִשְׁרִישׁ	וְאֶקֹּב	נְהוּ	פְתָאִם:
	میں نے	دیکھا	بے وقوف کو	جز پکڑتے ہوئے	اور لعنت کی میں نے	اُس کے گھر	فوراً
	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H0191</a>	<a href="#">H8327</a>	<a href="#">H6895</a>		<a href="#">H6597</a>

بھیجی۔ لعنت پر گھر کے اُس ہی فوراً نے مَیں لیکن دیکھا، پکڑتے جڑ کو احمق ایک خود نے مَیں

4	יִרְחֲקוּ	בְּנָיו	מִיִּשְׁעַ	וְיִרְכָּאוּ	בְּשַׁעַר	וְאִין	מִצִּיל:
	دور ہوں گے	اُس کے بیٹے	نجات سے	اور کچلے جائیں گے	دروازے پر	اور نہیں	بچانے والا
	<a href="#">H7368</a>		<a href="#">H3468</a>	<a href="#">H1792</a>	<a href="#">H8179</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H5337</a>

نہیں۔ کوئی والا بچانے اور ہے، جاتا رندا میں دروازے کے شہر اُنہیں رہتے۔ دُور سے نجات فرزند کے اُس

5	אֲשֶׁר	אֶקְצִירוּ	רְעִיב	יֹאכֵל	וְאָל-	מִצְנִים	יִקְחֵהוּ	וְשָׂאף	צְמִים	חִילָם:
	جس کی	فصل	بھوکا	کھائے گا	اور سے	کانٹوں	لے گا اُسے	اور نکل جائیں گے	پیسے	اُن کا مال
			<a href="#">H7457</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H6791</a>	<a href="#">H3947</a>		<a href="#">H6782</a>	<a href="#">H2428</a>

ہیں۔ جاتے پڑ پیچھے کے دولت کی اُس ہوئے بانہتے افراد پیاسے ہیں۔ لیتے چھین بھی مال محفوظ میں بازوں کانٹے دار جاتے، کھا فصل کی اُس بھوکے

6	וְכִי	לֹא-	יִצָּא	מִעַפְרָ	אֶון	וּמִאֲדָמָה	לֹא-	יִצְמַח	עֲמֹל:
	کیونکہ	نہیں	نکلے	خاک سے	بدی	اور زمین سے	نہیں	اگتی ہے	مصیبت
	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H6083</a>	<a href="#">H0205</a>	<a href="#">H0127</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H6779</a>	<a href="#">H5999</a>

پھوٹتا نہیں سے مٹی درد دُکھ اور نکلتی نہیں سے خاک بُرائی کیونکہ

7	כִּי-	אָדָם	לְעֲמֹל	יֹולֵד	וּבְנֵי-	רָשָׁף	יִבְקִיחוּ	עֹרָף:
	کیونکہ	آدمی	مشقت کے لیے	پیدا ہوتا ہے	اور بیٹے	چنگاری کے	اونچے اڑتے ہیں	اڑنے
		<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H5999</a>	<a href="#">H3205</a>		<a href="#">H7565</a>	<a href="#">H1361</a>	

ہیں۔ اڑتی طرف کی اوپر چنگاریاں کی آگ کہ یہ جتنا بے یقینی اتنا یہ ہے۔ جاتا پایا ہی میں وراثت کی اُس درد دُکھ ہے، باعث کا اِس خود انسان بلکہ

8	אוֹלָם	אֲנִי	אֶדְרֹשׁ	אָל-	אֵל	וְאָל-	אֱלֹהִים	אֲשִׁים	דְּבַרְתִּי:
	لیکن	میں	تلاش کروں گا	کو	خدا	اور کو	خدا	رکھوں گا	اپنا معاملہ
	<a href="#">H0199</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H1875</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0410</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0430</a>		<a href="#">H1700</a>

کرتا۔ پیش معاملہ اپنا ہی اُسے کرتا، دریافت سے اللہ تو ہوتا جگہ تیری مَیں اگر لیکن

9	עֹשֶׂה	גְּדֹלוֹת	וְאִין	תִּקְרַ	נִפְלְאוֹת	עַד-	אִין	מִסְפָּר:
	کرنے والا	بڑے کام	اور نہیں	تلاش	عجائب	تک	نہیں	شمار
		<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H2714</a>	<a href="#">H6381</a>	<a href="#">H5704</a>		<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H4557</a>

سکتا۔ نہیں گن انہیں کوئی کہ معجزے اتنے سکتا، پہنچ نہیں تک تہہ کی اُن کوئی کہ بے کرتا کام عظیم اتنے وہی

10	הַזֵּתָן	מָטָר	עַל-	פְּנֵי-	אֶרֶץ	וְשָׁלַח	מַיִם	עַל-	פְּנֵי	חַוּצוֹת:
	دینے-والا	بارش	پر	روئے	زمین-کے	اور-بھیجنے-والا	پانی	پر	روئے	کھیتوں
	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H4306</a>		<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H4325</a>		<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H2351</a>

بے۔ دیتا برسا پانی پر میدان کھلے کرتا، عطا بارش کو زمین رُوئے وہی

11	לְשׁוֹם	שְׂפָלִים	לְמַרְזֵם	אֶקְדְּרִים	שָׁבִיבוּ	יֵשׁוּעַ:
	رکھنے	نیچوں-کو	اونچائی-پر	اور-غمگین	اٹھائے-جاتے-ہیں	نجات
	<a href="#">H8217</a>	<a href="#">H4791</a>	<a href="#">H6937</a>	<a href="#">H7682</a>	<a href="#">H3468</a>	

بے۔ دیتا رکھ پر مقام محفوظ کر اٹھا کو والوں کرنے ماتم اور کرتا سرفراز وہ کو حالوں پست

12	מִפָּר	מַחְשְׁבוֹת	עֲרוּמִים	וְלֹא-	תַעֲשִׂינָהּ	יְדִיחֵם	תּוֹשִׁיחָהּ:
	ناکام-کرنے-والا	منصوبوں	چالاکوں-کے	اور-نہیں	کرتے-ہیں	اُن-کے-ہاتھ	کامیابی
	<a href="#">H4284</a>	<a href="#">H6175</a>	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H8454</a>	

ریں۔ ناکام ہاتھ کے اُن تاکہ بے دیتا توڑ منصوبے کے چالاکوں وہ

13	לִכְרֹ	חֲכָמִים	בְּעָרְמָם	וַעֲצָת	נִפְתָּלִים	נִמְהָרָה:
	پکڑنے-والا	داناؤں-کو	اُن-کی-چالاکی-میں	اور-مشورہ	بیچیدہ-لوگوں-کا	جلدی-ہو-جاتا-ہے
	<a href="#">H3920</a>	<a href="#">H2450</a>	<a href="#">H6193</a>	<a href="#">H6098</a>	<a href="#">H6617</a>	

ہیں۔ جاتی ہو ختم ہی اچانک سازشیں کی ہوشیاروں تو بے دیتا پھنسا میں پھندے کے چالاکی اپنی کی اُن کو مندوں دانش وہ

14	יוֹמָם	יַפְנֹשׁוּ-	חֲשֵׁךְ	אֶכְלִילָהּ	יִמְשְׁשׁוּ	בְּצַהָרִים:
	دن-کو	ملتے-ہیں	اندھیرے-سے	اور-جیسے-رات-کو	ٹھولتے-ہیں	دوپہر-کو
	<a href="#">H3119</a>	<a href="#">H6298</a>	<a href="#">H2822</a>	<a href="#">H3915</a>	<a href="#">H4959</a>	

ہیں۔ پھرتے کر ٹھول ٹھول وہ بھی وقت کے دوپہر اور جاتا، چھا اندھیرا پر اُن وقت کے دن

15	וַיֵּשַׁע	מִחֶרֶב	מִפִּיָּהֶם	וּמִיָּד	חֶזֶק	אֲבִיוֹן:
	اور-بجاتا-ہے	تلوار-سے	اُن-کے-منہ-سے	اور-ہاتھ-سے	طاقتور	غریب-کو
	<a href="#">H3467</a>	<a href="#">H2719</a>	<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H2389</a>	<a href="#">H0034</a>

بے۔ لیتا بجا سے قبضے کے زبردست اور تلوار کی منہ کے اُن کو مندوں ضرورت اللہ

16	וַתְּהִי	לְדָל	תְּקוּנָה	אֶעֱלֶתְהָ	קַפְצָהּ	פִּיָּהּ:
	اور-ہوتی-ہے	کمزور-کو	امید	اور-بدکاری	بند-کرتی-ہے	اپنا-منہ
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H1800</a>		<a href="#">H7092</a>	<a href="#">H6310</a>	

بے۔ جاتا کیا بند منہ کا ناانصافی اور جاتی دی امید کو حالوں پست یوں

17	הִנֵּה	אֲשֶׁרִי	אֶנְדוֹשׁ	יוֹכְחֵנִי	אֶלֹדָה	וּמוֹסֵר	שָׂרִי	אֶל-	תִּמְאַס:
	دیکھ	مبارک-ہے	آدمی	ڈانٹتا-ہے-جسے	خدا	اور-تربیت	قادر-مطلق-کی	مت	رد-کر
	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H0835</a>	<a href="#">H0582</a>	<a href="#">H3198</a>	<a href="#">H0433</a>	<a href="#">H4148</a>	<a href="#">H7706</a>	<a href="#">H0408</a>	

جان۔ نہ حقیر کو تادیب کی مطلق قادر چنانچہ بے! کرتا اللہ ملامت کی جس انسان وہ بے مبارک

18	כִּי	הוּא	יִכְאַיֵב	וַיַּחֲבֹשׁ	אֶיְדוֹ	(וַיִּדְדוּ)	תִּרְפְּנֶיהָ:	
	کیونکہ	وہ	زخمی-کرتا-ہے	اور-پٹی-باندھتا-ہے	مارتا-ہے	اور-ہاتھ	اُس-کے-ہاتھ	شفا-دیتے-ہیں
	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H3510</a>	<a href="#">H2280</a>	<a href="#">H4272</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H7495</a>	

بے۔ بخشتا بھی شفا سے ہاتھوں اپنے لیکن لگاتا ضرب وہ بے، دیتا لگا بھی پٹی مرہم لیکن کرتا زخمی وہ کیونکہ

19	בְּשֵׁשׁ	צָרוֹת	יִצְיִלָּךְ	וּבְשִׁבְעֵ	לֹא-	יָנַע	בְּרָע:
	چھ	مصیبتوں-میں	بچائے-گا-تجھ	اور-سات-میں	نہیں	چھوٹے-گی	برائی
	<a href="#">H8337</a>		<a href="#">H5337</a>	<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5060</a>	

گا۔ پہنچے نہیں نقصان تجھے تو آئے کوئی بھی بعد کے اس اگر اور گا، چھڑائے سے مصیبتوں چھ تجھے وہ

20	בְּרָעַב	פָּדַרְךָ	מִמּוֹת	וּבְמִלְחָמָה	מִיָּדִי	תָּרַב:
	فقط-میں	چھڑائے-گا-تجھے	موت-سے	اور-جنگ-میں	باتھ-سے	تلوار-کے
	<a href="#">H7458</a>	<a href="#">H6299</a>	<a href="#">H4194</a>	<a href="#">H4421</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H2719</a>

گا۔ دے نہیں آئے میں زد کی تلوار تجھے میں جنگ گا، بجائے سے موت تجھے کر دے فدیہ وہ تو پڑے کال اگر

21	בְּשׂוֹט	לְשׁוֹן	תְּחַבֵּא	וְלֹא-	תִּירָא	כִּי	יָבוֹא:
	کوڑے-سے	زبان-کے	چھپایا-جائے-گا-ٹو	اور-نہیں	ڈرے-گا-ٹو	تباہی-سے	جب
	<a href="#">H7752</a>	<a href="#">H3956</a>	<a href="#">H2244</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3372</a>	<a href="#">H7701</a>	<a href="#">H0935</a>

گی۔ ہو نہیں ضرورت کی ڈرنے تو آئے تباہی جب اور گا، رہے محفوظ سے کوڑوں کی زبان ٹو

22	לְשׁוֹר	וּלְכַפֵּן	תִּשְׁחַק	וּמַחֲיֵת	הָאָרֶץ	אֶל-	תִּירָא:
	تباہی-پر	اور-قحط-پر	ٹو-ہنسے-گا	اور-جانوروں-سے	زمین-کے	مت	ڈر
	<a href="#">H7701</a>	<a href="#">H3720</a>	<a href="#">H7832</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H4048</a>	<a href="#">H3372</a>	

گا۔ کھائے نہیں خوف سے جانوروں وحشی کے زمین گا، اڑائے ہنسی کی کال اور تباہی ٹو

23	כִּי	עִם-	אֲבָנֵי	הַשָּׂדֶה	בְּרִיתָךְ	וּמַחֲיֵת	הַשָּׂדֶה	הַשְּׁלֹמָה-	לָךְ:
	کیونکہ	ساتھ	پتھروں	کھیت-کے	تیرا-عہد	اور-جانور	کھیت-کے	صلح-پر-ہوں-گے	تجھ-سے
		<a href="#">H0068</a>	<a href="#">H1285</a>						

گے۔ گزاریں زندگی سے سلامتی ساتھ تیرے جانور جنگلی کے اُس لئے اس گا، ہو عہد ساتھ کے پتھروں کے میدان کھلے تیرا کیونکہ

24	וַיִּדְעַתְךָ	כִּי-	שְׁלוֹמִי	אֶחָדָךְ	וּפְקַדְתְּ	נֶגְדְךָ	וְלֹא	תִּחַטָּא:
	اور-جانے-گا-ٹو	کہ	سلامتی	تیرا-خیمہ	اور-جائزہ-لے-گا-ٹو	اپنے-گھر	اور-نہیں	پائے-گا-کوئی-گناہ
	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H7965</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H2398</a>			

ہوا۔ نہیں گم کچھ کہ گا ہو معلوم تو کرے معائنہ کا گھر اپنے ٹو جب ہے۔ محفوظ خیمہ تیرا کہ گا لے جان ٹو

25	וַיִּדְעַתְךָ	כִּי-	רַב	זֵרְעֶךָ	אֶצְאֵצְאֶיךָ	כְּעֵשֶׂב	הָאָרֶץ:
	اور-جانے-گا-ٹو	کہ	بہت	تیری-نسل	اور-تیری-اولاد	جیسے-گھاس	زمین-کا
	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H2233</a>	<a href="#">H6631</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H6212</a>		

گے۔ جائیں پھیلتے طرح کی گھاس پر زمین فرزند تیرے گی، جائے بڑھتی اولاد تیری کہ گا دیکھے ٹو

26	תָּבוֹא	בְּכַלְח	אֵלַי-	קָבֶר	כְּעֵלֹת	נְדִישׁ	בְּעֵתוֹ:
	آئے-گا-ٹو	بڑھاپے-میں	تک	قبر	جیسے-چڑھتا-ہے	پولا	اپنے-وقت-پر
	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3624</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H6913</a>	<a href="#">H5927</a>	<a href="#">H6256</a>	

گا۔ اترے میں قبر کر ہو رسیدہ عمر طرح کی پولوں شدہ جمع پر وقت ٹو

27	הִנֵּה-	זֹאת	תִּקְרָנוּךָ	כִּן-	הִיא	שְׂמֵעָנָה	וְאֵתָה	יָע-	לָךְ:
	دیکھ	یہ	ہم-نے-جانچا-اسے	ایسا	ہے	سن-اسے	اور-ٹو	جان	اپنے-لیے
	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H2713</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H3045</a>			

لے! اپنا اُسے کر سن بات ہماری چنانچہ ہے۔ ہی ایسا کہ ہے کیا معلوم کے کر تحقیق نے ہم